

اہم بیماریوں کی تلفی کا چارٹ

بیماریوں کی تلفی کے لئے 400 سے زیادہ زہریں پاس ہو چکی ہیں۔ لیکن اس چارٹ میں صرف ان زہروں کا ذکر کیا گیا ہے جو زیادہ موثر پائی گئی ہیں اور مارکیٹ میں دستیاب بھی ہیں

نام بیماری	متاثرہ فصلیں	مجوزہ زہر (فی ایکڑ)	متبادل
اگیتا جھلساؤ	آلو، ٹماٹر، مرچ، تمباکو	انٹراکال 500 گرام۔ باز (پروپینب) کیبریوٹاپ 300 گرام۔ ایف ایم سی (میٹی رام پلس پائری کلوسٹروبن)	ریڈومل گولڈ 250 گرام۔ سنجینا (میٹالاکسل پلس مینکو زیب)، ڈائی فینا کونازول، سکور۔ سنجینا
چھینا جھلساؤ	آلو، ٹماٹر، مرچ، تمباکو	میلوڈی ڈیو 500 گرام۔ باز (اپروولی کارب پلس پروپینب) کرزیٹ ایم 600 گرام۔ ڈوپنٹ (مینکو زیب پلس سائی موکسل) سکسس 250 گرام۔ ارشا (کلوروتھیلائل پلس میٹالاکسل)	ریوس (مینڈی پروپامائیڈ)، انٹراکال (پروپینب) ایکرو بیٹ۔ ایف ایم سی (مینکو زیب پلس ڈائی میتھو مارف) اور دیگر زہریں
بھبھا، بلاسٹ	مونجی	ٹٹیوو 65 گرام۔ باز (ٹیو کونازول پلس ٹرائی فلوکسی سٹروبن) ننوک 200 ملی لٹر۔ سوات ایگرو (ایزوکسی سٹروبن پلس فلوٹریافول)	ایمی سٹار ٹاپ 200 ملی لٹر (ایزوکسی سٹروبن پلس ڈائی فینا کونازول) سکور، ڈائی فینا کونازول
جراثیمی جھلساؤ (BLB)	مونجی	چیمپئن۔ جعفر ایگرو (کاپرا ہائڈرو آکسائیڈ) کوباکس 250 گرام۔ سوات ایگرو (کاپراکسی کلورائیڈ)	کاپراکسی کلورائیڈ، کاسومین (کاسوگامائی سین)
تنے کا کالا (کارلرٹ)	شملہ مرچ، ہری مرچ، ٹماٹر اور دیگر فصلیں	ریڈومل گولڈ 250 گرام۔ سنجینا (میٹالاکسل پلس مینکو زیب) ایلیٹ 250 گرام۔ باز (فوسینائل المونیم)	ٹاپسن ایم پلس ریڈومل گولڈ
روئیں دار پھپھندی (Downy mildew)	کدو، کھیرا، خربوزہ، انگور، مٹر و دیگر سبزیات اور پھل دار پودے	میلوڈی ڈیو 500 گرام۔ باز (اپروولی کارب پلس پروپینب) ایمی سٹار ٹاپ 200 ملی لٹر (ایزوکسی سٹروبن پلس ڈائی فینا کونازول) کیبریوٹاپ 300 گرام۔ ایف ایم سی (میٹی رام پلس پائری کلوسٹروبن)	انٹراکال (پروپینب)، ایلیٹ۔ باز (فوسینائل المونیم)، کرزیٹ ایم (مینکو زیب پلس سائی موکسل)، سکسس۔ ارشا (کلوروتھیلائل پلس میٹالاکسل)
سفونی پھپھندی (Powdery mildew)	سٹرابیری، گاجر، گلاب، مٹر، سیب، بیڑی، باغات اور دیگر	ٹاپ گارڈ 200 ملی لٹر۔ سوات ایگرو (ٹیو کونازول پلس فلوٹریافول) ٹٹیوو 90 گرام۔ باز (ٹیو کونازول پلس ٹرائی فلوکسی سٹروبن)	ٹوپاس (پینا کونازول)، سسٹھین (مانکو بیوٹائل)، ریلی۔ ارشا (مانکو بیوٹائل)
کوڑھ (کینکری، سکیب)	لبوں، کنو، جملہ تر شاوہ، آم اور دیگر پھلدار پودے	ایلیٹ 500 گرام۔ باز (فوسینائل المونیم) برائے سٹرس کینکری ٹٹیوو 90 گرام۔ باز (ٹیو کونازول پلس ٹرائی فلوکسی سٹروبن)	انٹراکال (پروپینب)، ریلی۔ ارشا (مانکو بیوٹائل)، کیبریوٹاپ (میٹی رام پلس پائری کلوسٹروبن)
سڑاند (پرپل بلاچ)	پیاز، لہسن	ایلیٹ 250 گرام۔ باز (فوسینائل المونیم) میلوڈی ڈیو 500 گرام۔ باز (اپروولی کارب پلس پروپینب)	انٹراکال (پروپینب)، فوسینائل المونیم
برگی دھبے (لیف سپاٹ)	گنا (ریڈ رات)، مونجی، جوار، پالک، تمباکو، گوجھی، چھندر	ایمی سٹار ٹاپ 200 ملی لٹر (ایزوکسی سٹروبن پلس ڈائی فینا کونازول) ٹٹیوو۔ باز (ٹیو کونازول پلس ٹرائی فلوکسی سٹروبن)	ننوک 200 ملی لٹر۔ سوات ایگرو (ایزوکسی سٹروبن پلس فلوٹریافول)
جڑ کا کالا (روٹ رات)	موگ، مسور، چنے، ٹماٹر، بھنڈی، لوسن، کپاس، پودینہ، سویا بین	ٹاپسن ایم 400 گرام۔ ارشا (تھاپوفینٹ میتھائل) ایلیٹ 250 گرام۔ باز (فوسینائل المونیم)	ریڈومل گولڈ۔ سنجینا (میٹالاکسل پلس مینکو زیب)، ٹاپسن ایم۔ ارشا (تھاپوفینٹ میتھائل)
نوخیز مرچھاؤ (Damping off)	کپاس، گوجھی، پیاز، ٹماٹر، مکئی، نرسریاں اور دیگر پودے	ڈائٹاٹی 3 ملی لٹر (کلونج۔ سنجینا) (ایزوکسی پلس زینفونکس پلس فلوڈائیونیکسل) ہومبرے۔ بکنی و کپاس 10، گندم 02 ملی لٹر۔ باز (ٹیو کونازول پلس امیڈا)	ریڈومل گولڈ۔ سنجینا (میٹالاکسل پلس مینکو زیب)، ٹاپسن ایم۔ ارشا (تھاپوفینٹ میتھائل)

تحقیق و تدوین محمد عاشق نظامت امور کاشتکاری ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد 2017ء